


FORM OF ORDER SHEET

Court of _____

Case No. - 348/2023

S.No.	Date of order proceedings	Order or other proceedings with signature of judge
1	2	3
1	20/02/2023	<p>The appeal of Mr. Muhammad Ikram received today by registered post through Mr. Khalid Mehmood Advocate. It is fixed for preliminary hearing before touring Single Bench at D.I.Khan on _____. Notices be issued to appellant his counsel for the date fixed.</p> <p>By the order of Chairman</p> <p> REGISTRAR</p>

BEFORE THE HONORABLE SERVICE TRIBUNAL,
KHYBER PAKHTUNKHWA, PESHAWAR

Service Appeal No. 349 of 2023

Muhammad Ikram S/o Allah Wasaya Ward Attendant DHO Office DIKhan.

Appellant

VERSUS


Govt. of Khyber Pakhtunkhwa Through Secretary Health Peshawar & Other.

Respondents

INDEX

S.No	Description of Documents	Annexure	Page(S)
1	Service Appeal with Affidavit.		1-5
2	CM with Affidavit		6
3	Copy of order dated; 05-08-2022	A	7
4	Copy of Arrival Report dated: 17-08-2022 to respondent No.2	B	8
5	Copy of department appeal dated: 15-08-2022	C	9-10
6	Copy of office order dated: 19-09-2022	D	11
7	Copy of Copy of arrival report dated: 26-09-2022 to respondent No.3	E	12
8	Copy of application dated: 05-10-2022 to respondent No.3	F	13
9	Copy of Department appeal dated: 15-11-2022 to respondent No.2	G	14
10	Wakalat Nama		15


Appellant

Through Council

Khalid Mahmood
Advocate High Court
Stationed at DIKhan

(1)

**BEFORE THE HONORABLE SERVICE TRIBUNAL,
KHYBER PAKHTUNKHWA, PESHAWAR**

Service Appeal No. 349 of 2023

Muhammad Ikram S/o Allah Wasaya Ward Attendant DHO Office DIKhan.

Appellant

VERSUS

1. Govt Of Khyber Pakhtunkhwa Through Secretary Health Peshawar.
2. Director General Health Services KPK Peshawar.
3. District Health Officer D.I.Khan.
4. District Account Officer DIKhan.

Respondents

SERVICE APPEAL UNDER SECTION 4 OF THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL ACT 1974 AGAINST NON COMPLIANCE OF ORDER NO.10645-48/PERSONAL DATED: 19-09-2022 AND NOT RELEASING THE SALARIES OF APPELLANT FROM 01-08-2022 TO TILL DATE AND FURTHER DIRECT THE RESPONDENT NO.3 TO RELEASE THE SALARIES OF APPELLANT WITH BACK BENEFITS CONTINUES THE SALARIES.

PRAYER IN APPEAL

On acceptance of instant appeal this honorable tribunal may be please to direct the respondents to compliance the order dated: 19-09-2022 and release the salaries of appellant from 01-08-2022 to till date. And further request to continue the salaries. Any other relief which this Honorable Tribunal may deem fit and proper may also be awarded to appellant in the interest of justice.

Note: that addresses of the parties given in the heading of the appeal are sufficient for the purpose of service upon them.

Respectfully sheweth,

The appellant prefers the instant appeal on the grounds hereinafter submitted apropos the following facts:

CONCISE FACTS:

1. That the appellant was initially appointed on the post of Ward Attendant on 2007 at Health Department DIKhan, and since then he has been performing his duties to the

entire satisfaction of his superiors and suddenly on 05-08-2022 was repatriated to Director General Health Services Khyber Pakhtunkhwa. Copy of Order dated: 05-08-2022 is enclosed as **Annexure-A**.

2. That on 17-08-2022 appellant submitted arrival report to respondent No.2 at the Office of Director General Health Services Khyber Pakhtunkhwa, Copy of Arrival Report dated: 17-08-2022 is enclosed as **Annexure-B**
3. That on 17-08-2022 appellant preferred Departmental Appeal dated: 15-08-2022 against the repatriated/ order No.8170-74 dated: 05-08-2022 before the Honourable Director General Health Services Khyber Pakhtunkhwa (Respondent No.2). Copy of Department Appeal dated: 15-08-2022 is enclosed as **Annexure-C**.
4. The Director General Health Services Khyber Pakhtunkhwa (Respondent No. 2) has placed at the disposal of DHO DIKhan, for further posting under his control against the vacant post. Vide officer order No.10645-48/personnel dated: 19-09-2022 Copy of office order dated: 19-09-2022 is enclosed as **Annexure D**.
5. That on 26-09-2022, with reference to order dated: 19-09-2022, the appellant submitted arrival report to District Health Officer DIKhan (Respondent No.3) Copy of Arrival report dated: 26-09-2022 is enclosed as **Annexure E**.
6. That on 05-10-2022 appellant preferred application to District Health Officer DIKhan against non payment of salaries and arrears. Copy of application dated: 05-10-2022 is enclosed as **Annexure F**.
7. That on 15-11-2022 appellant preferred Departmental Appeal to Director General Health appellant Khyber Pakhtunkhwa against non payment of salaried and arrears by District Health Officer DIKhan, Copy of Department appeal dated: 15-11-2022 in enclosed **Annexure G**.
8. That the representation preferred to respondent No 2 has no response till date, the appellant approaches this Honorable Tribunal for redressal of her grievances on inter alia the following grounds:


Accepted

GROUNDS:


- a. That Acts and deed in the matter cited above by respondent No. 2 & 3 are mala-fide in order of create technical hurdles in way of service of appellant, in order to destroy the 15 Years undisputed public service of the appellant which is very much clear from the conduct of respondent No.2 & 3.
- b. That conduct of respondent No.03 through non releasing of the pay will lead the appellant to dead ends of career which is strictly liable to comply the rules / order made by superior office / head of Allied Department to the respondent No.1 and appellant is liable to be dealt in with accordance with law.
- c. That all the cited mala-fide acts for not releasing the salaries and arrears done by respondent No.2 & 3 are against the law, rules natural justice and are in effected upon the rights of appellant.
- d. That appellant has career of 15 years service and illegal acts against the appellant are nothing has but the to make the entire service of the appellate a waste.
- e. That the council of the appellant may also be allowed to raise additional grounds during course of hearing.

Alleged

In wake of submission made above it is humbly prayed that the respondent No.3 may kindly be directed to deal with appellant in accordance with law in compliance of order No.10645-48 / personal dated: 19-09-2022 issued by respondent No.2 and arrival report submitted dated: 26-09-2022 and further to direct the responded No.3 to release the salaries of appellant with back benefits. Any other relief dean fit may also be granted to the appellant.

Appellant

Muhammad Ikram

Dated: 18/02/2023

Through Council

Khalid Mahmood
Advocate High Court
Stationed at DIKhan

**BEFORE THE HONORABLE SERVICE TRIBUNAL,
KHYBER PAKHTUNKHWA, PESHAWAR**

Service Appeal No. _____ of 2023

Muhammad Ikram S/o Allah Wasaya Ward Attendant DHO Office DIKhan.

Appellant

VERSUS

1. Govt Of Khyber Pakhtunkhwa Through Secretary Health Peshawar.
2. Director General Health Services KPK Peshawar.
3. District Health Officer D.I.Khan.
4. District Account Officer DIKhan.

Respondents

SERVICE APPEAL

CERTIFICATE

Certified that this is first appeal involving the instant subject matter and that the appellant has not filed any other appeal earlier in this Honorable Tribunal regarding the above stated controversy.

Dated: ___/___/2023


Appellant


AFFIDAVIT

I Muhammad Ikram S/o Allah Wasaya Ward Attendant District Health Office DiKhan do hereby solemnly affirm and declare on oath that all the parawise contents of above appeal are true and correct to the best of my knowledge, information and belief and that nothing has been deliberately consealed from this honorable tribunal.

Dated: 18/02/2023


Deponent

12101-5805973-5



(S)

**BEFORE THE HONORABLE SERVICE TRIBUNAL,
KHYBER PAKHTUNKHWA, PESHAWAR**

Service Appeal No. _____ of 2023

Muhammad Ikram S/o Allah Wasaya Ward Attendant DHO Office DIKhan.

Appellant

VERSUS

1. Govt Of Khyber Pakhtunkhwa Through Secretary Health Peshawar.
2. Director General Health Services KPK Peshawar.
3. District Health Officer D.I.Khan.
4. District Account Officer DIKhan.

Respondents

MEMO OF ADDRESSES OF THE PARTIES


APPELLANT

Muhammad Ikram S/o Allah Wasaya Ward Attendant DHO Office DIKhan.

RESPONDENTS

1. Govt. Of Khyber Pakhtunkhwa Through Secretary Health Peshawar Health Secretariat Khyber Road Peshawar.
2. Director General Health Services KPK Peshawar Old Fata Secretariat Warsak Road Peshawar.
3. District Health Officer D.I.Khan.
4. District Account Officer DIKhan.

Date: 18/2/2023


Counsel for appellant

(8)

**BEFORE THE HONORABLE SERVICE TRIBUNAL,
KHYBER PAKHTUNKHWA, PESHAWAR**

Service Appeal No. _____ of 2023

Muhammad Ikram S/o Allah Wasaya Ward Attendant DHO Office DIKhan.

Appellant

VERSUS

Govt. of Khyber Pakhtunkhwa Through Secretary Health Peshawar & Other.

Respondents

**APPLICATION INTERIM RELIEF RESTRAINING THE RESPONDENT
TAKING ANY ACTION DETRIMENTAL TO THE SERVICE OF APPELLANT
TILL FINAL DECISION OF MAIN APPEAL.**

Respectfully Sheweth:-

1. That the titled appeal is filling for adjudication before this Honourable Court.
2. That the appellant has moved an appeal with this Hon'able Tribunal, contents whereof may kindly be read in conjecture with the present appeal.
3. That the appellant has a good, prima-facie case in his favour and is hopeful of its success on merits.
4. That the appellant shall be exposed to irreparable loss and his main appeal shall be rendered infructuous if the present C.M is not accepted.

In the light of above submission it is prayed that above titled CM may please be accepted.


Appellant

Through Council


Khalid Mahmood
Advocate High Court
DIKhan


AFFIDAVIT

I Muhammad Ikram S/o Allah Wasaya Ward Attendant District Health Office DiKhan do hereby solemnly affirm and declare on oath that all the parawise contents of above appeal are true and correct to the best of my knowledge, information and belief and that nothing has been deliberately concealed from this honorable tribunal.

Dated: 18/02/2023


Deponent

12101-5805973-5


18/2/23



Amr A
7

OFFICE OF THE HOSPITAL DIRECTOR
MEDICAL TEACHING INSTITUTION, DHQ TEACHING HOSPITAL,

D.I. KHAN

Phone: 0966-920201/Fax: 0966-920446

NO.HD/DHQTH/MTI/DIK _____ /

DATE: 05/08/2022

OFFICE ORDER

Mr. Muhammad Ikram s/o Allah Wasaya working as Ward Attendant (BPS-05) as Civil Servant at DHQ Teaching Hospital MTI DIKhan. He is an unwilling worker, disobedient and most of the remained absent from duty without any information or sectioned of leave. His explanation has been called several time and warning issued but he did not mend his ways. His services are no more required to this institution. Therefore he is relived from DHQ Teaching Hospital MTI DIKhan on administrative grounds and directed to report to Director General Health Services Khyber Pakhtunkhwa Peshawar for his further posting outside MTI DIKhan.

HOSPITAL DIRECTOR
MTI DHQ TEACHING HOSPITAL
DIKHAN

No. 8170 - 74

Copy forwarded to the:-

1. Director General Health Services Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.
2. Director Finance MTI DIKhan.
3. Secretary BOG MTI DIKhan.
4. Incharge Accounts/Establishment Section of this office.
5. Mr. Muhammad Ikram s/o Allah Wasaya Ward Attendant.

HOSPITAL DIRECTOR
MTI DHQ TEACHING HOSPITAL
DIKHAN

ڈاکٹر حفصہ بٹ ڈاکٹر گلبرگ عزیزیل صلیبہ سرولنز ہونہ فینڈ کسٹری گراہ لکھنؤ
Amir (B) 8

DLR No
28062
17/8/22

Assessment Report

صاف بلکہ

گزارش کے تحت مندرجہ ذیل ڈاکٹر گلبرگ عزیزیل صلیبہ سرولنز ہونہ فینڈ کسٹری گراہ لکھنؤ
23 جولائی 2022ء کو پیش کیا گیا ہے۔

اس کے تحت مندرجہ ذیل ڈاکٹر گلبرگ عزیزیل صلیبہ سرولنز ہونہ فینڈ کسٹری گراہ لکھنؤ
17/8/22 کو پیش کیا گیا ہے۔

صفحہ 17/8/22

الکھنؤ

M. J. Khan

محمد اکرم ولد اللہ داسا، وارڈ انڈسٹریل سیکٹر، مندرجہ ذیل
گرمی، قبا، تحصیل ڈیرہ اسماعیل خان

03439695002

9

کثرت حساب ٹرانزیکشنز میں صاف کرکے اور خیر خواہی کے تحت

28807
17/8/22 - per

Annex C

ایپل پر خلاف آرڈر نمبر 74-8170 صحیح 2022/5/18

ارجحاری شہرہ میٹیل ٹرانزیکشنز (MTI) کی طرف سے ارسال کیے جانے والے

حساب نامی - سائل کے ذیل گزارشات کے ساتھ۔

1- یہ کہ سال 2007/215 سے بطور داردار اسٹریٹ کے ساتھ ڈیپازٹ میں جمعیت ہے۔ لہذا 2009/211 سے ڈسٹریکٹ ہیڈ کوارٹر کے ساتھ میٹیل کی طرف سے ارسال کیے جانے والے (MTI) میں بطور داردار اسٹریٹ کی طرف سے جمع کیے گئے 5 سال سے سائل کا کوئی بھی complaint نہیں آیا۔

2- یہ کہ تقریباً 2 سال کے ضمنی طور پر میٹیل میں ٹرانزیکشنز (MTI Employees) کوئی نوآبادی کے خلاف سرکاری طور پر (H.A) میٹیل میں جنرل کی گئی تھی۔ سرکار میں فوراً کارروائی کی جائے گی۔ چونکہ ٹرانزیکشنز میں ایک ہی پبلک کونسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ لہذا ان کے خلاف

۱۷ صی سیاست کے ساتھ پورے بلدیات الیکشن contest کرتا رہتا ہے۔ ٹرانزیکشنز میں ٹیف کے ذریعے دی جانے والی پبلک منڈگ کرنا ہے۔ لہذا اگر میں اسے ووٹ نہ دے تو وہ خواہواہ پر میری complaint لہران والا کوئی ہے۔

3- یہ آپ بلدیات الیکشن جو کہ دسمبر 2022 میں ہو گا۔

بہتر رشتہ دار بھی کینڈیڈیٹ تھا۔ دوسرے خاندان کے
 بچہ کے پیارے گھر میں اس کے لیے۔ تو یہ دیکھ کر میرا دل
 لرز جھک گیا کہ میں کونسی لڑکی ختم کر رہا ہوں۔ چونکہ میں
 سولہ برس تھا۔ تو لڑکی تو یہ ختم نہیں کر سکتا تھا تو
 اس میں مجھے غلط فہمی ہوئی کہ یہ *relieved* کر آیا۔
 حالانکہ میں ڈیوٹی کر رہا تھا۔ خواہ میں اپنا رہا۔ اگر
 ڈیوٹی نہ کرتا تو خواہ کس نے سکتا تھا۔

نوٹ - *relieved* لکھ کر مورخہ 22/2/2012ء اور آئی آر ڈی مورخہ 21/8/2007ء
 و آئی آر ڈی مورخہ 2/12/2009ء میں سرسبک کچی لکھی گئی۔
 تریہ اکتیلتی ایڈیٹ 2022 کینڈیڈیٹ لٹک ٹیور کوٹ لکھی گئی۔

میرا استاد ہے کہ *relieved* آئی آر ڈی کینسل کیا گیا
 یا مجھے ڈسٹریکٹ ڈسٹرکٹ میں *August* کیا گیا
 سائنس تعلیمات شکر گارڈ ہے۔

مورخہ 15/8/2022

الصار

مکداترام ولد اللہ ساہوکار
 پتھت مہا ۵۸۱
 تریہ مہا ۵۸۱
 5-5973-580-12804
 0343 969 5002



DIRECTORATE GENERAL HEALTH SERVICES KHYBER PAKHTUN KHWA PESHAWA

10
Amer (D)

E-Mail Address: info@dgshs.khyber.gov.pk office Ph# 091-9210269 Exchange# 091-9210187, 9210196 Fax # 091-9210230

OFFICE ORDER

As approved by the competent authority (DGHS Khyber Pakhtunkhwa) the services of Mr. Muhammad Ikram S/O Allah Wasaya Ward Attendant (waiting for posting) are hereby placed at the disposal of DHO D.I.Khan for further posting under his control against the vacant post in the interest of public service with immediate effect.

Nb: Arrival/ departure reports should be submitted to this Directorate for record.

Sd/xxxxxxxxx
DIRECTOR GENERAL HEALTH
SERVICES, K.P.K, PESHAWAR.
Dated 19/09/2022.

No. 10645-48 /Personnel

Copy forwarded to the:-

1. DHO D.I.Khan.
2. M.S DHQ Hospital D.I.Khan w/r to his Endst No. 2170-74 dated 04.08.2022.
3. DAOD:I.Khan.
4. Official Concerned.

For information and necessary action.

ADDITIONAL DG (HRM)
DIRECTORATE GENERAL HEALTH
SERVICES, K.P PESHAWAR

19/9/2022

فہرست کتاب ڈسکرکٹ صلیبہ آئینس ۱۹۵۱ میں ڈسکرکٹ ڈیپارٹمنٹ

Annex (E)

عمودان - حاضری رپورٹ

مکتوبہ نمبر

گزارش سے کہ مکتوبہ کی ڈسکرکٹ میں مکتوبہ نمبر
کے آرڈر نمبر ۱۵۸/۱۵۸-۱۵۸/۱۵۸/۱۵۸/۱۵۸
۱۹/۹/۲۰۲۲ کے تحت
کتاب کے آرڈر نمبر ڈسکرکٹ ہوئے

مکتوبہ حاضری رپورٹ میں مکتوبہ ہے
نوشہ آرڈر نمبر ہے

مکتوبہ نمبر ۱۹/۹/۲۰۲۲

العازم

مکتوبہ ڈسکرکٹ نام و نام اللہ رب العالمین
M. Ahmad

کندھت جناب ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کوئٹہ کی طرف سے

Ames



13

درخواست پر رٹخواہ جاری کرنے و تقابلیات بخیر اگست 2022

جناب عالی

سائل درج ذیل گزارشات مرض رسالہ ہے

1 سائل آپ جناب کے زیر سایہ بخیر وارد و اینڈ منٹ آئیے دفتر میں ملتا ہے
2 یہ کہ سائل کو بخیر 22/8/22 کے آرڈر کے تحت ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کوئٹہ
ہسپتال (MTI) سے (Relieve) کیا گیا تھا۔

3 یہ کہ بخیر 19/9/22 کو آرڈر نمبر Personnel 48-10645 بتاؤتے 22/9/22 کے
تحت سائل کی پوسٹنگ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کوئٹہ کی طرف سے آپ جناب
کے زیر سایہ کی گئی (آرڈر بخیر 22/9/22 لفظ ہے)

4 یہ کہ سائل نے آرڈر نمبر 22/9/22 کے تحت ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کوئٹہ کی طرف سے
میں بخیر 26/9/22 کو (Arrival Report) حاضری کی (حاضری رپورٹ لفظ ہے)

5 سائل کی رٹخواہ جو کہ (Relieving Order) بخیر 22/8/22 سے Stop
یہ گئی تھی ابھی تک جاری نہیں ہوئی۔

لہذا آپ جناب سے استدعا ہے کہ سائل کی رٹخواہ و تقابلیات جو کہ اگست
2022 سے میں جاری کیے جا سکیں اور آئندہ کیلئے ایسی جاری کیے جا سکیں۔
سائل آپ جناب کا صاحبیت دیکھا گیا ہے

بخیر 22/8/2022

العارین

سائل محمد اکرام وارد و اینڈ منٹ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کوئٹہ کی طرف سے

AW-89
جناب صاحب ڈائریکٹر جنرل عدلیہ کراچی چیف جسٹس خزانہ لہذا

اپیل برائے تنخواہ جاری بننے کی ضمانت بحورفہ اگست 2022 تا اگست

ضمانت ملانی

سال درج ذیل گزراوات کرتا ہے۔

- 1. یہ کہ سال بحورفہ 17/8/2022 کو آپ کے زیر مباحثہ ملزم ہے۔
 - 2. یہ کہ سال کو بحورفہ 5/8/2022 کو بحورفہ کے تحت ڈائریکٹر جنرل عدلیہ کراچی چیف جسٹس خزانہ (MTI) سے Release کرنا تھا۔ (ثبوت لیا ہے)
 - 3. یہ کہ سال نے بحورفہ 17/8/2022 کو آپ کے عدلیہ کراچی چیف جسٹس خزانہ میں - Arival Report دی تھی۔ اور اس طرح (Relieving Order) کے خلاف بحورفہ 17/8/22 کو اپیل بھی جمع کرائی تھی۔ (بحورفہ ثبوت - Arival Report) اور اپیل لیا جس میں
 - 4. یہ کہ بحورفہ 19/9/2022 کو آرڈر نمبر personal/48-10645-19/9/2022 جاری کیا گیا تھا۔ تحت سال کی پوسٹنگ ڈائریکٹر جنرل عدلیہ کراچی چیف جسٹس خزانہ کے زیر مباحثہ کی گئی (آرڈر بحورفہ 19/9/2022 لیا ہے)
 - 5. یہ کہ آرڈر بحورفہ 19/9/2022 کے تحت سال نے ڈائریکٹر جنرل عدلیہ کراچی چیف جسٹس خزانہ میں بحورفہ 26/9/2022 کو حاضری کی۔ (بحورفہ ثبوت حاضری رپورٹ لیا ہے)
 - 6. یہ کہ سال کی تنخواہ جو (Relieving Order) بحورفہ 5/8/2022 سے 5/8/2022 سے 5/8/2022 کی تک جاری نہیں ہوئی۔
- لہذا استدعا ہے کہ سال کی تنخواہ و ضمانت جو اگست 2022 سے جاری کی جائے۔

بحورفہ 15/11/2022

الحارث

سال محمد اکرم دار ڈائریکٹر جنرل عدلیہ کراچی چیف جسٹس خزانہ



KHALID MEHMOOD

Advocate
bc-15-5415
Date of Issue: November 2022
Valid upto: November 2025



وکالت نامہ

15

Secretary
KP Bar Council

کورٹ فیس

بعدالت جناب خیر محمد خان سرور سب سے منجانب

منجانب اپنی طرف سے

بنام گورنمنٹ ہاؤس کورٹ
محمد اکرام
سرور سب سے

دعویٰ یا جرم
تفصیل دعویٰ یا جرم

باعث تحریر آنکہ

مقدمہ مندرجہ بالا عنوان میں اپنی طرف واسطے پیروی و جوابدہی برائے پیشی یا تصفیہ مقدمہ بمقام ڈسٹرکٹ جج صاحب

حالیہ طور پر گورنمنٹ ہاؤس کورٹ
کے حسب ذیل شرائط پر وکیل مقرر کیا ہے، کہ میں ہر پیشی پر خود بذریعہ اختیار خاص رو برو عدالت حاضر ہوتا ہوں گا۔ اور ہر وقت پکارے جانے مقدمہ وکیل صاحب
موصوف کو اطلاع دیکر حاضر عدالت کروں گا، اگر پیشی پر منظر حاضر نہ ہوں اور مقدمہ میری غیر حاضری کی وجہ سے کسی طور پر میرے برخلاف ہو گیا۔ تو صاحب موصوف
اسکے کسی طرح ذمہ دار نہ ہوں گے، نیز وکیل صاحب موصوف صدر مقام بکھری کے علاوہ کسی جگہ یا بکھری کے اوقات سے پہلے یا چھپے یا بروز تعطیل ہی رہنے کے
ذمہ دار نہ ہوں گے۔ نیز وکیل صاحب موصوف صدر مقام بکھری کے علاوہ کسی جگہ یا بکھری کے اوقات سے پہلے یا چھپے یا بروز تعطیل ہی رہنے کے ذمہ دار نہ
ہوں گے۔ اور مقدمہ صدر بکھری کے علاوہ اور جگہ ساعت ہونے یا بروز تعطیل یا بکھری کے اوقات کے آگے چھپے پیش ہونے پر منظر کو کوئی نقصان پہنچے تو اس کے ذمہ
دار یا اس کے واسطے کسی معاوضہ کے ادا کرنے یا ضمانت واپس کرنے کے بھی موصوف ذمہ دار نہ ہوں گے۔ مجھ کو کل ساعت ہر داخل صاحب موصوف محل کردہ
ذات خود منظور و قبول ہوگا۔ اور صاحب موصوف کو مرضی دعویٰ، یا جواب دعویٰ یا درخواست اجراء کے ذریعہ نظر ثانی اپنی گمانی رہنمائی اور درخواست پر دخل و تصدیق کرنے کا
بھی اختیار ہوگا۔ اور کسی حکم یا ڈگری کرنے اور حکم کا روپیہ وصول کرنے اور رسید دینے اور داخل کرنے اور حکم کے بیان دینے اور اس پر پاشی یا راضی نامہ و فیصلہ پر
حلف کرنے، اقبال دعویٰ کا بھی اختیار ہوگا۔ اور بصورت مقرر ہونے تاریخ پیش مقدمہ مذکورہ بعد ان از بکھری صدر ہی دی مقدمہ مذکورہ نظر ثانی و اپنی گمانی و برآمدگی
مقدمہ یا منسوخی ڈگری یا حکم انسانی یا قرتی یا گرفتاری عمل از فیصلہ اجراء ڈگری بھی صاحب موصوف کو بشرط ادائیگی طبعہ و عین ہی دی کا اختیار ہوگا
اور تمام ساعت ہر داخل صاحب موصوف محل کردہ ذات خود منظور و قبول ہوگا۔ اور بصورت ضرورت صاحب موصوف کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ مقدمہ مذکورہ یا اسکے کسی جزو
کی کارروائی یا بصورت درخواست نظر ثانی اپنی یا گمانی یا دیگر معاملہ مقدمہ مذکورہ کسی دوسرے وکیل یا ہیر سز کو اپنے بجائے یا اپنے ہمراہ مقرر کریں۔ اور ایسے شیر قانون کو
بھی ہر امر میں وہی اور ویسے اقتیارات حاصل ہوں گے، جیسے صاحب موصوف کو حاصل ہیں، اور دوران مقدمہ میں جو کچھ ہر جانہ التواء پڑے گا، وہ صاحب
موصوف کا حق ہوگا۔ مگر صاحب موصوف کو پوری میں تاریخ پیشی سے پہلے ادا نہ کروں گا۔ تو صاحب موصوف کو پورا اختیار ہوگا کہ وہ مقدمہ کی ہی دی نہ کریں اور ایسی
صورت میں میرا کوئی مطالبہ کسی حکم کا صاحب موصوف کے برخلاف نہیں ہوگا۔

لہذا وکالت نامہ لکھ دیا ہے۔ تاکہ مستند ہے
18 مارچ 2023

مضمون وکالت نامہ سن لیا ہے۔ اور اچھی طرح سمجھ لیا ہے اور منظور ہے۔

العبد العبد العبد

Accepted
2/3

03364330001

محمد اکرام
اپنی طرف سے